

139869- اگر خاوند کسی دوسری عورت سے شادی نہ کرے تو کیا بیوی خاوند سے کنڈوم استعمال کرنے کا مطالبہ کر سکتی ہے تاکہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے

9

## سوال

ان ایام میں بہت سارے مرد بیوی کے علاوہ گرل فرینٹ بیار ہے ہیں، اور بیوی کی بجائے ان سے بچے پیدا کر رہے، اور پھر پٹ آتے ہیں، تو کیا اگر وہ دوسری عورت سے شادی نہیں کرتا تو میں اپنے خاوند سے میڈیکل کنڈوم استعمال کرنے کا مطالبہ کروں تاکہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکوں؟

## پسندیدہ جواب

اول:

زنا اکبر الکبائر گناہوں اور سب سے بڑی مصیبت میں شامل ہوتا ہے، اور یہ سب سے رزیل کام ہے، اس کا دنیا و آخرت اور قبر میں بھی بہت شدید قسم کا عذاب ہے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

۔[آج تمہارے لیے پاکیزہ اشیاء اور ان لوگوں کا کھانا جنہیں کتاب دی گئی ہے حلال کر دیا گیا ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پاکباز موم عورتیں اور ان لوگوں کی پاکباز عورتیں جنہیں تم سے قبل کتاب دی گئی ہے جب تم انہیں ان کے مہاد کردو، عفت و حصمت اختیار کرتے ہوئے نہ کہ زنا کاری اور بد کاری کرتے ہوئے اور پوشیدہ دوستیاں لگاتے ہوئے اور جو کوئی بھی ایمان کے ساتھ کفر کیا تو اس کے اعمال ضائع ہو گئے، اور وہ آخرت میں نہ صانع انحصار نہ والوں میں سے ہو گا]۔ المائدہ (5).

ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں:

”جس طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں پاکباز ہونا جو کہ زنا سے عفت اختیار کرنا ہے شرط لگائی ہے، اسی طرح مردوں میں بھی اس کی شرط رکھی ہے کہ مرد بھی محسن اور عفیف و پاکباز ہو، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا:

۔[وہ زنا کاری اور بد کاری کرنے والے نہ ہوں]۔

اور یہ لوگ ہیں جو زنا کرنے والے ہیں جو معصیت و نافرمانی سے اجتناب نہیں کرتے، اور نہ ہی اپنے آپ کو ایسی عورت سے بچاتے ہیں جو ان کے پاس آتے۔ (اور وہ خفیہ دوستیاں نہیں لگاتے) یعنی انہوں نے عورتوں سے دوستیاں لگاتے ہیں اور ان کے ساتھ بد فعلی کرتے ہیں۔“ انتہی

دیکھیں: تفسیر ابن کثیر (43/3)۔

اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے:

”عورت کا خاوند جب کسی دوسری عورت سے زنا کرتا ہو اور حلال و حرام میں تمیز نہ کرے تو اس کا بیوی سے وطنی کرنا اسی محسن سے ہے جو زنا فی عورت سے وطنی کرتا ہے جس سے زنا کیا جائے اگرچہ اس سے اس کے علاوہ کوئی اور اس سے وطنی نہیں کرتا، اور زنا کی صورت میں یہ بھی شامل ہے کہ خفیہ دوستیاں لگائی جائیں“

دیکھیں: مجموع الفتاوی (145/32).

شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے دریافت کیا گیا:

ایک عورت نے اپنے خاوند کو "اللہ محفوظ" کے "زنہ کرتے ہوئے دیکھا تو وہ کیا کرے؟

شیخ زکریا مسیح رحمہ اللہ کا جواب تھا:

"وہ اسے نصیحت کرے، خاص کر اگر وہ پہلی بار ہے اور اس کی اولاد بھی ہو تو اسے نصیحت کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ یہ فعل ہمیشہ کرتا ہے تو پھر اس سے فتح نکاح کا مطالبہ کرے بہر حال اسے عموماً مصلحت و خرابی کو دنظر کھنا چاہیے اور ان دونوں میں موازنہ بھی کرنا چاہیے" انتہی

دیکھیں: ثمرات الدوین من مسائل ابن عثیمین (112).

مزید آپ سوال نمبر (115107) کے جواب کا مطالعہ ضرور کریں.

دوم:

بیوی کو حق حاصل نہیں کہ وہ خاوند سے اتنا تے جماع کنڈوں استعمال کرنے کا مطالبہ کرے، الایہ کہ الگ اس کا کوئی سبب ہو؛ صرف اس کا کسی دوسری عورت سے شرعی شادی کرنا اسے مباح نہیں کرتا، الایہ کہ جب یہ واضح ہو جائے کہ اس کا خاوند اسی بیماری کا شکار ہے مثلاً ایڈز وغیرہ.

جس کا جماع کے ذریعہ منتقل ہونا ممکن ہے، یا پھر یہ واضح ہو کہ دوسری بیوی کو اس طرح کا مرض لاحق ہے یا پھر خاوند شادی کے علاوہ حرام تعلقات بھی رکھتا ہے، تو یہاں بیوی کو حق حاصل ہے کہ وہ خاوند سے کنڈوں استعمال کرنے کا مطالبہ کر سکتی ہے، تاکہ مظہونہ ضرر و نقصان سے بچا جاسکے اس وقت تک کہ اس کی سلامتی واضح ہو جائے.

اور اگر یہ واضح ہو جائے کہ وہ صحیح و سلیم ہے اور کوئی ایسا ظاہر مصدر نہیں جس سے اس کے ذریعہ بیماری منتقل ہونے کا خطرہ ہو تو اسے ایسا مطالبہ کرنے کا حق حاصل نہیں اور اگر یہ واضح ہو جائے کہ اسے ایسی بیماری اور مرض ہے جو اسے نقصان دے گی یا متعدد طریقہ سے اس میں منتقل ہو جائیگی تو بھی بیوی اس کے استعمال کا مطالبہ کر سکتی ہے.

بلکہ اس وقت تو اسے فتح نکاح کا حق حاصل ہے، جب اسے اس بیماری میں اپنے لیے خطرہ ہو، اور اس بیماری کا علاج مشکل ہو یا نہ ہو سکتا ہو تو وہ فتح نکاح کا دعویٰ کر سکتی ہے مثلاً ایڈز وغیرہ.

اس سلسلہ میں مزید تفصیلات کے لیے ڈاکٹر عمر سلیمان الاشقر کی کتاب "دراسات فقهیة في قضايا طبية" (1/25) کا مطالعہ کریں.

واللہ عالم.